

سابقہ اور لاحقے

ایک لفظ سے دوسرے لفظ بننے کا عمل اشتقاق کہلاتا ہے۔ اردو زبان کی تخصیص ہے کہ اس میں قواعد کے مطابق ایک لفظ سے کئی دوسرے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اردو سابقہ اور لاحقے کا دروبست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

سابقہ: سابقہ سے مراد وہ بامعنی یا بے معنی لفظ، حرف یا علامت ہے جو کسی موجود مفرد لفظ سے قبل یوں لکھی جائے کہ اس سے ایک ایسا نیا لفظ یا کلمہ ترکیب پاجائے جو نئے معنی کا حامل ہو، مثلاً: مراد سے با مراد، ادب سے بے ادب، چھوٹ سے اچھوت، وارث سے لاوارث، جان سے یک جان، قرآن سے صاحب قرآن وغیرہ۔

لاحقہ: لاحقہ سے مراد وہ بامعنی یا بے معنی لفظ، حرف یا علامت ہے جو کسی موجود مفرد لفظ کے بعد یوں لکھی جائے کہ اس سے ایک ایسا نیا لفظ یا کلمہ ترکیب پاجائے جو نئے معنی کا حامل ہو، مثلاً: قلم سے قلم وان، علم سے علم بردار، میز سے میز پوش، ضرورت سے ضرورت مند، شہر سے شہر یار، مدد سے مددگار، قیام سے قیام گاہ وغیرہ۔

طلیبہ کی سہولت کے لیے ذیل میں چند سابقہ اور لاحقے دیے جاتے ہیں:

سابقہ

آن	آن پڑھ، آن مول، آن جان، آن گنت، آن تھک، آن دیکھا
اہل	اہل بیت، اہل نظر، اہل کمال، اہل قلم، اہل طن، اہل علم
با	با ادب، با خدا، با وفا، با وقار، با کمال، با قادرہ
بر	برآمد، برآمدہ، بر باد، بر تر، بر حق، بر خاست
بلا	بلا امتیاز، بلا نامہ، بلا قیمت، بلا اجازت، بلا ارادہ، بلا تکلف، بلا تامّل
بلند	بلند کردار، بلند نظر، بلند ہمت، بلند اقبال، بلند فطرت، بلند پرواز
بن	بن بلا یا، بن دیکھا، بن بیاہا، بن دام، بن روئے
بے	بے ادب، بے علم، بے عقل، بے خبر، بے نصیب، بے مثال، بے پروا، بے کار
پُر	پُر جوش، پُر کیف، پُر ہول، پُر درد، پُر وقار، پُر آب، پُر آشوب، پُر معنی، پُر فرم
پس	پس منظر، پس ماندہ، پس پرده، پس خورده، پس انداز
پیش	پیش بندی، پیش خدمت، پیش خیمه، پیش رفت، پیش رو، پیش قدی
خود	خود غرض، خود رزو، خود آرا، خود ارادیت، خود پسندی، خود نمائی

خوش	خوش بُو، خوش خلق، خوش باش، خوش گلو، خوش دامن، خوش مزاج، خوش خط
دار	دار پرده، دار پیه، دار کار، دار میان، دار گزرن، دار آمد
زیر	زیر سایه، زیر علاج، زیر دست، زیر لب، زیر پار، زیر حراست
زود	زود پیمان، زود رنج، زود هضم، زود اثر، زود فهم، زود نویس
شاه	شاه راه، شاه رگ، شهباز، شهتوت، شه بالا، شه سوار، شه کار
غیر	غیر ممکن، غیر معمولی، غیر موزول، غیر ذمہ دار، غیر حاضر، غیر آباد، غیر مشروط
کم	کم نظر، کم ظرف، کم همت، کم حوصله، کم عقل، کم گو، کم خرچ، کم زور
لا	لازوال، لاحاصل، لا علاج، لا وارت، لا تعداد، لا جواب، لا ولد، لا ثانی
نا	نامرد، نالائق، ناتواں، نادان، ناجائز، ناپاک، ناتجربه کار، نابالغ، نادانسته
نو	نوعمر، نوجوان، نوخیز، نونهال، نوسلم، نووارد، نوزائیده، نوبهار، ناآموز، نوآباد
نیم	نیم جان، نیم روز، نیم حکیم، نیم ملّا، نیم مردہ، نیم پنجه، نیم مکل، نیم کش
هم	هم سفر، هم صفیر، هم راز، هم نام، هم وطن، هم جماعت، هم چشم، هم خیال
یک	یک رنگ، یک زبان، یک دل، یک لخت، یک دم، یک جهقی

✿
لاخته

اندیش	خیر اندیش، بد اندیش، مصلحت اندیش، دور اندیش، عاقبت اندیش
انگیز	نفرت انگیز، حیرت انگیز، عبرت انگیز، در انگیز، فکر انگیز
انداز	خلل انداز، دست انداز، در انداز، رخنه انداز، تیر انداز، پس انداز
آرا	اخیمن آرا، چهار آرا، بزم آرا، صفا آرا، عالم آرا، مند آرا، گیتی آرا
آلود	خون آلود، زنگ آلود، گرد آلود، غبار آلود، قهر آلود، خخش آلود، عرق آلود
اور	تن آور، زور آور، بخت آور، حمله آور، نشہ آور، قد آور
بان	در بان، شتر بان، فیل بان، مهر بان، باغبان، سار بان، نگه بان، گله بان، میز بان
بخش	فرحت بخش، منفعت بخش، جان بخش، حیات بخش، خدا بخش، صحت بخش، مولا بخش

بردار	علم بردار، ناز بردار، فرماس بردار، مشتعل بردار، حاشیه بردار، عصا بردار
پرسست	آتش پرسست، بست پرسست، حق پرسست، خود پرسست، هر پرسست، زر پرسست، تدامت پرسست
پرور	بندہ پرور، تن پرور، سخن پرور، احباب پرور، غریب پرور، کنبه پرور، کینه پرور
پن	کتوار پن، گتوار پن، بچپن، اڑکپن، دیوانہ پن، بھول پن، اکھڑپن، بانک پن
پوش	میز پوش، سفید پوش، سرخ پوش، سیاه پوش، پاپوش، گرد پوش، کمل پوش، پنگ پوش
خانہ	جیل خانہ، کارخانہ، باور چی خانہ، قمار خانہ، شفا خانہ، بست خانہ، غریب خانہ، غسل خانہ
خواہ	خیرخواہ، تختخواہ، بدخواہ، قرض خواہ، خاطر خواہ، بھی خواہ، عذر خواہ، دادخواہ
خور	چغل خور، خوط خور، حرام خور، حلال خور، آدم خور، مردار خور، شراب خور
خیز	زرخیز، مردم خیز، نو خیز، سحر خیز، فتنہ خیز، بلا خیز، دھما کا خیز، تعجب خیز، قیامت خیز
دار	وفادر، جہاں دار، داع دار، جان دار، سمجھدار، سرمایه دار، تاج دار، آب دار، پھرے دار
دان	قلم دان، قدردان، پان دان، عطردان، سیاست دان، ریاضی دان، نکتہ دان
رساں	چھپی رساں، فیض رساں، سراغ رساں، پیغام رساں، ضرر رساں، ایڈا رساں، نفع رساں
زار	لالہ زار، بسزه زار، چجن زار، ریگ زار، گلی زار، مرغ زار، خار زار
ساز	قانون ساز، جلد ساز، دوا ساز، زمانہ ساز، چارہ ساز، سخن ساز، حیلہ ساز
ستان	کوهستان، گلستان، خارستان، نگستان، قبرستان، پاکستان، بلوچستان، ازبکستان
شکن	بٹ شکن، حوصلہ شکن، قانون شکن، دندان شکن، پیمان شکن، خیبر شکن، عہد شکن، دل شکن
شناں	اداشناس، مزانج شناس، حق شناس، خود شناس، موقع شناس، قدر شناس، روشناس
طلب	خیر طلب، آرام طلب، انصاف طلب، محنت طلب، جفا طلب، شہرت طلب، مرمت طلب
فروش	جو فروش، سرفروش، گل فروش، ضمیر فروش، کتب فروش، بردہ فروش، غله فروش
کده	بست کده، آتش کده، دولت کده، آرام کده، نعمت کده، صنم کده، غم کده، حیرت کده
گار	پروردگار، کردگار، روزگار، خدمت گار، پرہیزگار، مددگار، طلب گار، سازگار
گاہ	آرام گاہ، پناہ گاہ، بارگاہ، قیام گاہ، چراگاہ، عید گاہ، شکار گاہ، کمین گاہ
گر	آہن گر، بازی گر، کار گر، زر گر، غارت گر، جادو گر، چارہ گر، دریوزه گر، شیشه گر